



سوال

(340) جنین ساقط ہونے کی صورت میں عورت کے لئے احکام

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعض حاملہ عورتوں کا جنین ساقط ہو جاتا ہے۔ کئی جنین ایسے ہوتے ہیں۔ جن کی تخلیق مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں۔ جن کی تخلیق ابھی مکمل نہیں ہوئی ہوتی امید ہے کہ آپ یہ وضاحت فرمائیں گے کہ ان دونوں صورتوں میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جب عورت ایسے جنین کو ساقط کرے جس کا سر ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء بن چکے ہوں تو وہ نساء (نفاس والی) ہے۔ اس کے لئے وہی احکام ہوں گے جو نفاس کے ہیں۔ وہ طہارت یا چالیس دن سے پہلے نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی۔ اور اس کے شوہر کے لئے اس سے مقاربت حلال ہوتی اگر وہ چالیس دنوں سے کم میں طاہر ہو جائے تو اس کے لئے غسل نماز اور رمضان کے روزے واجب ہوں گے۔ اور اس کے شوہر کے لئے اس سے مقاربت حلال ہوگی۔

نفاس کی کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں اگر وہ ولادت کے دس دن بعد یا اس سے کم زیادہ دنوں میں پاک ہو جائے تو اس کے لئے غسل کرنا واجب ہوگا۔ اور اس کے لئے طاہر عورتوں کے احکام ہوں گے۔ اور وہ خون جو چالیس دنوں کے بعد دیکھے وہ فاسد خون ہوگا۔ اس کی موجودگی میں وہ نماز روزہ کر سکتی ہے۔ اور اس کے شوہر کے لئے مقاربت بھی حلال ہے۔ مستحاضہ کی طرح اسے ہر نماز کے وقت میں وضوء کرنا ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت عیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔۔۔ جب وہ مستحاضہ تھیں۔۔۔ سے فرمایا کہ:

وتوضی لوقت کل صلاة (ہر نماز کے وقت میں وضوء کرو۔) (امام شوکانی فرماتے ہیں۔ کہ "ان الروایة لكل صلاة لالوقت کل صلاة" روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہر نماز کے لیے وضوء کرو۔ یہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہر نماز کے وقت کے لئے وضوء کرو۔ نیل الاوطار جلد: 1 ص: 275 امام شوکانی کی یہ بات درست ہے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیں۔) (سنن ابن داؤد کتاب الطہارة باب من قال تغتسل من طہرالی طہرح: 298)

اور چالیس دنوں کے بعد اگر ماہانہ معمول یعنی حیض شروع ہو جائے تو اس کے لئے حیض کا حکم ہوگا یعنی اس کے لئے طہارت سے پہلے نماز روزہ اور جنسی عمل حرام ہوگا۔

اگر ساقط ہونے والے جنین میں عمل تخلیق ابھی تک واضح نہ ہوا ہو یعنی ابھی تک وہ گوشت کا لوتھڑا سا ہوا اس میں ہاتھ پاؤں نمایاں نہ ہوئے ہوں یا ابھی تک صرف خون ہی ہو تو اس کے لئے حیض و نفاس کا نہیں بلکہ مستحاضہ کا حکم ہوگا یہ نماز پڑھے گی۔ رمضان کے روزے بھی رکھے گی۔ اس کے شوہر کے لئے وظیفہ زوجیت بھی حلال ہوگا اسے ہر نماز کے

وقت میں وضوء کرنا ہوگا مستحاضہ کی طرح روئی وغیرہ کے ساتھ خون کو گرنے سے روکنا ہوگا حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے اسے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھنے کی بھی



اجازت ہے۔ اس کے لئے ظہر عصر مغرب و عشاء اور صبح کی نماز کے لئے غسل کرنے کا بھی حکم ہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں حدیثِ حسنہ بنتِ جحش سے ثابت ہے کیونکہ اس صورت میں اہل علم کے نزدیک یہ عورت مستحانہ کے حکم میں ہے۔ واللہ ولی التوفیق۔ (شیخ ابن باز)
حداماعندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ: جلد 1

صفحہ نمبر 324

محدث فتویٰ